



نبی کریم ﷺ شعبان سے زیادہ اور کسی مہینہ میں روزہ نہیں رکھتے تھے

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ شعبان سے زیادہ اور کسی مہینہ میں روزہ نہیں رکھتے تھے شعبان کے پورے دنوں میں آپ ﷺ روزہ سے رکتے ایک اور روایت میں ہے: نبی ﷺ اس کے صرف چند دن کو چھوڑ کر تقریباً پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے

[صحیح] [متفق علیہ]

ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینہ میں روزہ سے نہیں رکتے یقیناً آپ ﷺ شعبان کا پورا مہینہ روزہ سے رکتے ایک اور روایت میں ہے: چند دنوں کو چھوڑ کر آپ پورا شعبان ہی روزہ رکھتے ہیں دوسری روایت، پہلی روایت کی تفسیر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پہلے قول ”سارا مہینہ“ کی وضاحت ہے کہ سارا مہینہ سے مراد مہینہ کا بیش تر حصہ ہے ایک قول یہ ہے کہ کسی سال آپ ﷺ سارا مہینہ روزہ رکھتے اور کسی سال اس ماہ میں کچھ روزہ رکھتے ایک قول یہ ہے کہ کسی سال اس ماہ کی ابتدا میں، کبھی اس کے آخر میں اور کبھی اس ماہ کے درمیانی دنوں میں روزہ سے رکتے اور عموماً اس ماہ کو بلا روزہ نہ چھوڑتے البتہ کبھی کبھی دن چھوڑ بھی دیتے لہذا مناسب یہی ہے کہ انسان دیگر مہینوں کی بے نسبت ماہ شعبان میں بکثرت روزوں کا اہتمام کرے؛ کیوں کہ نبی ﷺ اس ماہ میں روزوں کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے اس کی حکمت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا یہ پیش رو مہینہ ہوتا ہے؛ ویسے ہی، جیسے جس طرح فرض کا پیش رو سنن رواتب ہوتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھنے کو اس لیے خصوصیت دی گئی ہے کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال آسمان دنیا پر چڑھائے جاتے ہیں، جیسا کہ سنت سے اس کی دلیل ملتی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/6213>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

